

دے پور: آہستہ آہستہ پڑی پرلوٹ رہی ہے زندگی
کرفیو میں 12 گھنٹے کی زرمی، انٹرنیٹ سروں بھی بحال کر دی گئی



پود (بیو لین آنٹی راجستھان کے ادے سے
کہنیاں لال قل کیس۔
نے والی خیدگی کے یہ
لطف تھاتھ علاقوں میں نا-
میں 12 سکھنے کری

پنجاب کا بینیہ میں توسعی، 5 نئے وزراء کی حلف برداری



س لین بس /

بے پور: انجینئر خاتون کی خودکشی سے پرداہ اٹھا

سیوات: اکثریتی غلبہ والے علاقوں میں کھولا جا رہا ہے کیندریہ و دھالیہ ذیئُ کھمنر نے متعلقہ افسران کے ساتھ میٹنگ کی



بص لیون پس)

مطالبه پورا کرنے کیلئے کسانوں کا احتجاج دوبارہ شروع
کھیم یور متأثرین کو بھی راحت کے لیے خروزہ مہم کا اعلان

لیکن بھول میر عاصمہ نے اسی جاے کی درجی
جس اس کی امداد سامان تھت (کامن پی)۔
ایسا لات کا فوج کا فوج سالے سے
کوئی خودت کا فوج نہیں تھیں کی جائے کی وجہ سے
کے لئے اسی وجہ سے اسی کامن اسکے
تھیں کی کاری کی ایک کامن اسی وجہ سے
کوئی خودت کا فوج نہیں تھیں کی جائے کی وجہ سے
کلکلی کی وجہ سے اسی کامن کوئی خودت کی بھول
کوئی خودت کا فوج نہیں تھیں کی جائے کی وجہ سے

سیدنا محدث علامہ
محمد بُرھان الدین

ہی اورٹ لے جو
چنپی گوہ (بیس این بیس)
 خاک اور دل کو دیکھ کر بیٹھ کر نے سے
 بہت سے کوئی سچا سدا کوئی دل کو دیکھ کر بیٹھ کر
 نہیں کیلیں پلیٹ پیار کرنے کی حاجیت خیز ہے
 خارج گردید رخواست کی سماں کرنے والے
 شے کے درخواست کاروں کی دل میں کیا ہے۔
 رخواست گزار کے مل کی سے کیسی بکار کے
 رخواست کے مل کی سے کیسی بکار کے
 نالے انہیں اس مسئلے پر فکر کرنا چاہیے۔
 نالے انہیں کیا پوچھنے کی حاجیت نہیں
 اسی کی وجہ سے اسی کی وجہ سے اسی کی وجہ سے

مطالہ لوراک راجستھان میں ماسون کی پہلی بارش نے ریکارڈ توڑا
جس کا سب سے زیاد تر جنگلی اور بیویوں کا تاثر۔ انسانوں کے بیٹھنے والے جنگلی علاقوں میں اس کا تاثر بہت زیاد تھا۔

مدھیہ پردیش میں موسلا دھار بارش سے کئی دریاؤں میں سیلاب
حـ: ۱۰ کنٹلر شک نگاہیا کے قنب آگے



٦٥

بہویل (جینشیل)
میسر پر بیٹھنے میں بھی کئی سسے باہل
کرنے کے لئے اگر دنیا نالے پر بھرے رہے
اہم۔ دنیا اور کاری راست سے بھوپال کی
کامیابی کے لئے اپنے شایدی کے خواہیں
کے ساتھ ملے گائے۔ سنسکریت کا میں میں کیا
رسانہ میں ملے گئے۔ مسروپ اپنی اپنی کامیابی کے
لئے اپنے تلاشیوں کا بڑا دار 11
کامیابی کے لئے اپنے تلاشیوں کا بڑا دار 11

مسلم حل میں 49 اضلاع کے 133 شہروں کا اداروں میں، 62 اڈوں کو بولنگ

بہبیوال (بوابن آنسی) مدھیہ پوشش میں شری ہڈی ہڈی 7 جن 7 یعنے سے 5 میں کوچک وکھ بھوک۔ گھٹنے نے کے گئے۔ اسے مرے طریقی 11 بیکار کا پیش کیا گیا۔ 36 میں گھٹنے کا نہیں۔

بہبیوال (بوبن آنسی) کو 149 خالع کے شری ہڈی ادھوں میں ہوتا ہے۔ اپنے نہتے تاک پسلر طریقے میں ہوگی۔ مجھی طریقے پر 13 ہڈی 148 پاٹک۔